

# 15th Meeting of the Working Mechanism for Consultation & Coordination on India-China Border Affairs

June 24, 2020

## بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم کا 15 واں اجلاس

24 جون، 2020

بھارت چین سرحدی امور پر مشاورت اور رابطہ کیلئے ورکنگ میکانزم (ڈبلیو ایم سی سی) کا 15 واں اجلاس 24 جون، 2020 کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعہ منعقد ہوا۔ ہندوستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے جوائنٹ سکرپٹری (مشرقی ایشیا) نے کی، جبکہ چینی وفد کی قیادت، چینی وزارت خارجہ کے ماتحت ہاؤنڈری اور سمندری امور شعبہ کے ڈائریکٹر جنرل نے کی۔

2- دونوں فریقین نے ہندوستان چین سرحدی علاقوں میں ہونے والی پیشرفت خصوصاً مشرقی لداخ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ہندوستانی فریق نے مشرقی لداخ میں حالیہ پیشرفت پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا جس میں 15 جون کو وادی گالوان کے علاقے میں ہونے والا پرتشدد جھڑپ شامل ہے، جس کے نتیجے میں کئی ہلاکتیں ہوئی تھیں۔ اس سلسلے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ دونوں فریق لائن آف ایکچوئل کا سختی سے احترام کریں اور اسے مانیں۔

3- دونوں فریقین نے گذشتہ ہفتے بھارتی وزیر خارجہ اور چینی اسٹیٹ کونسلر اور وزیر خارجہ عالی جناب وانگ بی کے درمیان ہونے والی بات چیت کو یاد کیا۔ انہوں نے اس بات کی تاکید کی کہ دونوں فریقین کو 6 جون کو سینئر کمانڈروں کے مابین پیچھے ہٹنے اور کشیدگی کم کرنے کے بارے میں طے پانے والی مفاہمت کو پوری طرح سے نافذ کرنا چاہئے۔ دونوں وفود نے اس بات پر اتفاق کیا کہ دو طرفہ معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق اس مفاہمت کو جلد نافذ کرنے سے سرحدی علاقوں میں امن و سکون اور دونوں ممالک کے مابین وسیع تر تعلقات کو فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ اس تناظر میں، انہوں نے 22 جون کو سینئر کمانڈروں کے مابین دوسری میٹنگ میں ہونے والی بات چیت کا بھی ذکر کیا۔

4- دونوں فریقین نے موجودہ صورتحال کو پر امن طریقے سے حل کرنے کے لئے ڈبلیو ایم سی سی کے فریم ورک کے تحت سفارتی اور عسکری سطح پر بھی رابطے کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔

نی دہلی

24 جون، 2020